

-1
 جنگلات کی کٹائی جنگل میں درختوں کی بڑی تعداد میں کٹائی ہے۔
 جنگلات کی کٹائی ہمیشہ سے ہمارے ماحول کے لئے خطرہ رہی ہے۔
 لیکن پھر بھی بہت سے انسان اس غلط پریکٹس کو جاری رکھے
 ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ جنگلات کی کٹائی ماحولیاتی عدم توازن کا
 باعث بن رہی ہے۔ پھر بھی کچھ خود غرض لوگوں کو اپنی جیبیں بھری
 بڑتی ہیں۔ اس لئے وہ اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچتی
 لہذا، صحیح حکومت ماحول کو، پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لئے
 جو اپنی اقدامات کر رہی ہے۔

Deforestation is the cutting of a large
 number of trees in forests. Deforestation
 has always been a threat to our
 environment. But still most of the people are
 doing this wrong practice. Moreover,
 deforestation is engendering environmental
 imbalance. Nonetheless, some selfish people
 have to feather their nest. ~~But~~ That is
 why they do not give it a thought.
 Therefore, government is taking counter
 measures to avoid environmental damage.

-2
 زمین کی آلودگی بہت سے مختلف عوامل کی وجہ سے ہے جو بالآخر زمین
 کو آلودہ کرتی ہے۔ زمین کی آلودگی کی کچھ وجوہات میں کیڑے مار
 ادویات کا استعمال، گھوس غفلت، جنگلات کی کٹائی، بڑھتی ہوئی
 شہر کاری، تیز رفتاری باڑھیں اور کان کنی کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ان
 میں سے بہت سے ماحول پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ گھوس غفلت زیادہ تر اسی
 معمولات پر مشتمل ہوتا ہے جو ناقابل تحلیل ہوتی ہیں اور ان کو
 گھسانے لگانا مشکل ہوتا ہے۔ مزید برآں، یہ سرگرمیاں نہ صرف
 مٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ مختلف جانداروں اور جانوروں کے
 انفیکشن اور بیماریوں کی وجہ سے بھی بنتی ہیں۔

There are several ^{causes} factors of land pollution
 which ultimately befalls the Earth
 pollute the Earth.

2. Some of the causes of land pollution include the use of insecticides, solid wastes, deforestation, growing urbanization, acid rains and making mines. Most of these causes ~~badly~~ negatively affect the environment. Solid wastes mostly consist of the ~~indissoluble~~ **insoluble/not degradable** products which are difficult to settle down. Furthermore, these activities not only damage the soil but also cause different infections and diseases **for** humans and animals.

-3 کھیل یقیناً خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کھیل کھیلنا مناسب طریقے سے یارت کرنے کا اعتماد بڑھاتا ہے۔ ایک کھیل یقینی طور پر دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی مہارت کو بہتر بناتا ہے۔ مزید برآں، شخص بچنے، کھڑے ہونے اور صحیح طریقے سے چلنے میں اعتماد کا جذبہ کرتا ہے۔ لہذا، کھیل ایک فرد کی سماجی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ کھیل زندگی میں نظم و ضبط لاتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر لگن اور مہارتی اقدار سکھاتا ہے۔ کھیل لوگوں کو ناگہانی سے نیند کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ مزید برآں، کھیلوں میں شیڈول پر عمل کرنے کی اہمیت بھی موجود ہے۔

2. Undoubtedly, sports ^a ~~is~~ a source of self-belief. Sports improves articulatory. Certainly, sports **ameliorates** communication skill. Moreover, a person gets confidence to sit, stand and walk properly. Hence, sports improves the social life of a person. Sports **brings** discipline in life. Definitely, it teaches the values of devotion and patience. Sport teaches how to face failure. Furthermore, sports tell about the importance of following a schedule.

self confidence

-4 اس قسم کے بعد بوڑھا آدمی واضح طور پر غصیل ہو گیا، وہ خدا کو تلاش نہ کر پایا تھا اور بدلے میں ملنے والی عنبر طمانیت کی وجہ سے وہ کتنی بار بد اخلاقی ہو گیا، نوجوان اس بہاوی کی طرف فریاد کیا۔ ابھی وہ زیادہ دیر تک نہیں گئے یہوں گے کہ انہیں کچھ خاصا ملے گا کوئی عکس نظر آیا۔ اب سر جھرنے سے واضح نظر آرہی تھی۔

The old man definitely got angry after this campaign. He could not find God and was vile many times due to the discontentment. The young man took him towards mountain. They were not at a long distance when they saw a shadow. Everything was unambiguous now.